

Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
4th Month, 4th Week, 2nd Day	Review Exercise 8 Q # (1, 2)	

Q.1. Choose the correct options. (1 x 5 = 5) درست جواب کا انتخاب کریں۔

(i) The sum of all sides of rectangle is called. مستطیل کے تمام اضلاع کا مجموعہ کہلاتا ہے:

(a) volume حجم	(b) area رقبہ	(c) perimeter احاطہ	(d) cubiod مکعب نما
----------------	---------------	---------------------	---------------------

(ii) The formula to calculate the breadth of each opposite side of rectangle is:

مستطیل کے مخالف اضلاع کی چوڑائی معلوم کرنے کا کلیہ استعمال ہوتا ہے:

(a) $l = b + \frac{P}{2}$	(b) $b = \frac{P}{2} - l$	(c) $P = 2(l + b)$	(d) $A = \frac{1}{2}(l \times b)$
---------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------------------

(iii) One and the only dimension-less figure is: صرف ایک رُخنی شکل کہلاتی ہے:

(a) circle دائرہ	(b) triangle مثلث	(c) rectangle مستطیل	(d) point نقطہ
------------------	-------------------	----------------------	----------------

(iv) The volume of cuboid can be calculated by using the formula:

مکعب نما کا حجم معلوم کرنے کا فارمولا ہے:

(a) $V = 4l^2$	(b) $V = l^3$	(c) $V = l \times b \times h$	(d) $V = 3\sqrt{l}$
----------------	---------------	-------------------------------	---------------------

(v) Altitude is also known as: ارتفاع کو بھی کہا جاتا ہے:

(a) diagonal وتر کی لمبائی	(b) base قاعدہ	(c) perpendicular عمودی اونچائی height	(d) hypotenuse
----------------------------	----------------	--	----------------

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.2. Define perimeter and area. (1.5x2=3) احاطہ اور رقبہ کی تعریف کریں۔

Q.3. Define volume of cube. (1x2=2) مکعب کا حجم کی تعریف کریں۔

Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
4th Month, 4th Week, 2nd Day	Review Exercise 8 Q # (1, 2)	

Q.1. Choose the correct options. (1 x 5 = 5) درست جواب کا انتخاب کریں۔

(i) The sum of all sides of rectangle is called. مستطیل کے تمام اضلاع کا مجموعہ کہلاتا ہے:

(a) volume حجم	(b) area رقبہ	(c) perimeter احاطہ	(d) cubiod مکعب نما
----------------	---------------	---------------------	---------------------

(ii) The formula to calculate the breadth of each opposite side of rectangle is:

مستطیل کے مخالف اضلاع کی چوڑائی معلوم کرنے کا کلیہ استعمال ہوتا ہے:

(a) $l = b + \frac{P}{2}$	(b) $b = \frac{P}{2} - l$	(c) $P = 2(l + b)$	(d) $A = \frac{1}{2}(l \times b)$
---------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------------------

(iii) One and the only dimension-less figure is: صرف ایک رُخنی شکل کہلاتی ہے:

(a) circle دائرہ	(b) triangle مثلث	(c) rectangle مستطیل	(d) point نقطہ
------------------	-------------------	----------------------	----------------

(iv) The volume of cuboid can be calculated by using the formula:

مکعب نما کا حجم معلوم کرنے کا فارمولا ہے:

(a) $V = 4l^2$	(b) $V = l^3$	(c) $V = l \times b \times h$	(d) $V = 3\sqrt{l}$
----------------	---------------	-------------------------------	---------------------

(v) Altitude is also known as: ارتفاع کو بھی کہا جاتا ہے:

(a) diagonal وتر کی لمبائی	(b) base قاعدہ	(c) perpendicular عمودی اونچائی height	(d) hypotenuse
----------------------------	----------------	--	----------------

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.2. Define perimeter and area. (1.5x2=3) احاطہ اور رقبہ کی تعریف کریں۔

Q.3. Define volume of cube. (1x2=2) مکعب کا حجم کی تعریف کریں۔